



Online Issuance Certificate

About this document

This document describes the step by step guidelines to download Immunization Certificate after fully vaccinated (getting 2 dose in total)

After getting fully vaccinated, applicant will access <https://nims.nadra.gov.pk/nims/> over the internet from Computer, laptop etc.

Getting Started (New Certificate Issuance)

- **STEP-1** Access NIMS website by entering “ <https://nims.nadra.gov.pk/> ”
 - You will land on the HOME page of the NIMS website and select/press Corona Vaccine Certificate button and enter required information.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج | ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی | ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج | کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

کوویڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے
لیئے آپنا شناختی کارڈ نمبر اور دیگر معلومات فراہم
کریں۔ سرٹیفکیٹ کی فیس کی ادائیگی بذریعہ ڈیبٹ یا
کریڈٹ کارڈ کی جا سکتی ہے۔
مزید معلومات کے لئے براہ کرم ذیل میں دیئے گئے
سوالات اور جوابات پڑھیں۔

شناختی کارڈ/افغان پی او آر نمبر *

CNIC Issue Date

شناختی کارڈ کی تاریخ اجراء *

4 + 10 =

تصدیق کریں

- **STEP-2:** Provide Additional Information details.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج | ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی | ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج | کورونا حفاظتی شیٹوں کا سرٹیفکیٹ

ذیل میں دیئے گئے تفصیلات فراہم کریں۔

شناختی کارڈ / افغان بی او آر نمبر

1234567890123

پاسپورٹ / شناختی کارڈ کے مطابق نام *

پاسپورٹ نمبر

قومیت *

قومیت منتخب کریں

تصدیق کریں

- **STEP-3:** Payment Terms & Conditions. Accept and press button.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1
Terms and Conditions

Step 2
Payment Details

Step 3
Payment Receipt

Step 4
Review Info

Step 5
Download Certificate

NOTE: Please Read the Following Payment Terms and Conditions carefully. You may only proceed if these terms are acceptable to you.

By proceeding further you agree to the following:

THE FEE IS NON-REFUNDABLE AFTER THIS STAGE.

We have **NO REFUND POLICY** against any application initiated/submitted for its applications. Therefore the applicant is requested to thoroughly review the information and guidelines on the website related to the online application system. Also make sure that you apply in the correct category because once your payment is processed, no refund will be entertained.

We are not responsible if applicants credit card issuer does not authorize usage of their credit card for payment of the fees on the website.

We reserve the right to cancel any application without providing any reason or notification for doing so. In case of a cancellation, the application fee shall not be refunded.

I Have Read And Accept The Payment Terms And Conditions.

Accept and Continue

■ **STEP-4:** Provide Credit/Debit Card Information.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Terms and Conditions **Step 2 Payment Details** Step 3 Payment Receipt Step 4 Review Info Step 5 Download Certificate

 **Amount : 100**

Card Number * Security Code *

Expiry (Month) * Expiry (Year) *

First Name * Last Name *

Email * Country *

State * City *

Postal/Zip Code * Street *

▲ NOTE : Your payment is secured with SSL encryption, the highest commercially available encryption technology. Please be assured that your credit card details will not be exposed.

Confirm And Pay

STEP-5: Print payment receipt and press continue.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Step 2 **Step 3** Step 4 Step 5
Terms and Conditions Payment Details **Payment Receipt** Review Info Download Certificate

Thank you for your payment. You have successfully paid for your application.

Tracking ID :	100000185	<p>You have successfully paid for your application.</p> <p>Click here to print receipt.</p> <p>or</p> <p>Click here to proceed.</p>
Amount :	100	
Currency :	PKR	
Payment Method :	Credit Card	

[Print Receipt](#) [Continue](#)

For queries and complaints regarding payment, please call us on 1166

STEP-6: Review Information before Certificate Issuance.

کورونائیکسیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Step 2 Step 3 **Step 4** Step 5
Terms and Conditions Payment Details Payment Receipt **Review Info** Download Certificate

اپنے کوائف کی تصدیق کریں

شناختی کارڈ/افغان پی او آر نمبر

1234567890123

پاسپورٹ / اسی این آئی سی کے مطابق نام *

umer farooq khan

پاسپورٹ نمبر

as1234567

قومیت *

▼ پاکستان - Pakistan

اندراج کریں

STEP-7: Download Certificate.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Terms and Conditions Step 2 Payment Details Step 3 Payment Receipt Step 4 Review Info **Step 5 Download Certificate**

براہ کرم نیچے دیئے گئے بٹن پر کلک کر کے اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

MINISTRY OF NATIONAL HEALTH SERVICES REGULATIONS AND COORDINATION
GOVERNMENT OF PAKISTAN

Certificate No. 100000288

Issuing Date: 25-03-2021

IMMUNIZATION CERTIFICATE FOR COVID-19

Ali Ahmed Kurd

Birth Date: 08-04-1984 CNIC No. 12345-6789012-3

Nationality: Pakistan Passport No. PK123467

has been administrated following COVID-19 vaccine.

Vaccine or prophylaxis	Date	Name of Health Center	Vaccine manufacturer & batch No.
01.	04-02-2021	Mayo Hospital	Sinopharm, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd 123456789
02.	26-02-2021	Mayo Hospital	Sinopharm, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd 123456789

MINISTRY OF NATIONAL HEALTH SERVICES REGULATIONS & COORDINATION
Issuing Authority

For more details

Getting Started (Reprint Already Issued Certificate)

- **STEP-1** Access NIMS website by entering “ <https://nims.nadra.gov.pk/> ”.
 - You will land on the HOME page of the NIMS website and select/press Corona Vaccine Certificate button and enter required information.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

شناختی کارڈ/انفانٹی او آر نمبر*

CNIC Issue Date شناختی کارڈ کی تاریخ اجراء*

4 + 10 = 

[تصدیق کریں](#)

کوویڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے
لئے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور دیگر معلومات فراہم
کریں۔ سرٹیفکیٹ کی فیس کی ادائیگی بذریعہ ڈیبٹ یا
کریڈٹ کارڈ کی جاسکتی ہے۔
مزید معلومات کے لئے براہ کرم ذیل میں دیئے گئے
سوالات اور جوابات پڑھیں۔

- **STEP-2** Select option to Reprint/Download.

سرٹیفکیٹ سے متعلق معلومات

12345-6789012-3

فراہم کردہ شناختی کارڈ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ جاری کردہ سرٹیفکیٹ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں
کلیک کریں۔

سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

جاری کردہ سرٹیفکیٹ میں کوائف کی تبدیلی کے لیے یہاں کلیک کریں۔ کوائف کی تبدیلی کے لیے فیس کی ادائیگی کے بعد آپ کو نیا
سرٹیفکیٹ کا اجراء کیا جائیگا۔

سرٹیفکیٹ پر کوائف تبدیل کریں

Getting Started (Modify Data on Certificate)

- **STEP-1** Access NIMS website by entering “ <https://nims.nadra.gov.pk/> ”.
 - You will land on the HOME page of the NIMS website and select/press Corona Vaccine Certificate button and enter required information.

کورونہا ویکسینیشن کے لئے اندراج | ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی | ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج | کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

کوویڈ-19 ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے حصول کے لئے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور دیگر معلومات فراہم کریں۔ سرٹیفکیٹ کی فیس کی ادائیگی بذریعہ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے براہ کرم ذیل میں دیئے گئے سوالات اور جوابات پڑھیں۔

شناختی کارڈ/افغان پی او آر نمبر*

CNIC Issue Date

شناختی کارڈ کی تاریخ اجراء*

4 + 10 =

تصدیق کریں

- **STEP-2** Select modify data on Certificate.

سرٹیفکیٹ سے متعلق معلومات

12345-6789012-3

فراہم کردہ شناختی کارڈ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ جاری کردہ سرٹیفکیٹ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں۔

سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

جاری کردہ سرٹیفکیٹ میں کوائف کی تبدیلی کے لیے یہاں کلک کریں۔ کوائف کی تبدیلی کے لیے فیس کی ادائیگی کے بعد آپ کو نیا سرٹیفکیٹ کا اجراء کیا جائیگا۔

سرٹیفکیٹ پر کوائف تبدیل کریں

- **STEP-3** Change Information on Certificate and verify. Applicant will able to change Name, Passport no. and Nationality.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منحنی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

ذیل میں دیئے گئے تفصیلات فراہم کریں۔

شناختی کارڈ/افغان پی او آر نمبر

پاسپورٹ / شناختی کارڈ کے مطابق نام *

پاسپورٹ نمبر

قومیت *

قومیت منتخب کریں

تصدیق کریں

STEP-4 Payment Terms & Conditions. Accept and press button.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر پورٹل کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1
Terms and Conditions

Step 2
Payment Details

Step 3
Payment Receipt

Step 4
Review Info

Step 5
Download Certificate

NOTE: Please Read the Following Payment Terms and Conditions carefully. You may only proceed if these terms are acceptable to you.

By proceeding further you agree to the following:

THE FEE IS NON-REFUNDABLE AFTER THIS STAGE.

We have **NO REFUND POLICY** against any application initiated/submitted for its applications. Therefore the applicant is requested to thoroughly review the information and guidelines on the website related to the online application system. Also make sure that you apply in the correct category because once your payment is processed, no refund will be entertained.

We are not responsible if applicants credit card issuer does not authorize usage of their credit card for payment of the fees on the website.

We reserve the right to cancel any application without providing any reason or notification for doing so. In case of a cancellation, the application fee shall not be refunded.

I Have Read And Accept The Payment Terms And Conditions.

Accept and Continue

STEP-5 Provide Credit/Debit card.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج | ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی | ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج | کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1
Terms and ConditionsStep 2
Payment DetailsStep 3
Payment ReceiptStep 4
Review InfoStep 5
Download Certificate



Amount : 100

Card Number *

Expiry (Month) *

First Name *

Email *

State *

Postal/Zip Code *

Security Code *

Expiry (Year) *

Last Name *

Country *

City *

Stroot *

▲ NOTE : Your payment is secured with SSL encryption, the highest commercially available encryption technology. Please be assured that your credit card details will not be exposed.

Confirm And Pay

STEP-6 Print payment receipt and press continue.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Step 2 **Step 3** Step 4 Step 5
Terms and Conditions Payment Details **Payment Receipt** Review Info Download Certificate

Thank you for your payment. You have successfully paid for your application.

Tracking ID :	100000185	<p>You have successfully paid for your application.</p> <p>Click here to print receipt.</p> <p>or</p> <p>Click here to proceed.</p>
Amount :	100	
Currency :	PKR	
Payment Method :	Credit Card	

Print Receipt Continue

For queries and complaints regarding payment, please call us on 1166

STEP-7 Review Information before Certificate Issuance.

کورونا ویکسینیشن کے لئے اندراج ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Step 2 Step 3 **Step 4** Step 5
Terms and Conditions Payment Details Payment Receipt **Review Info** Download Certificate

اپنے کوائف کی تصدیق کریں

شناختی کارڈ/افغان پی او آر نمبر

1234567890123

پاسپورٹ / اسی این آئی سی کے مطابق نام *

umer farooq khan

پاسپورٹ نمبر

as1234567

قومیت *

▼ پاکستان - Pakistan

اندراج کریں

STEP-8 Download Certificate.

کورونا ویکسین کے لئے اندراج
ہیلتھ کیئر یونٹ کا اندراج یا تبدیلی
ویکسین کے منفی اثرات کا اندراج
کورونا حفاظتی ٹیکوں کا سرٹیفکیٹ

Step 1 Terms and Conditions
Step 2 Payment Details
Step 3 Payment Receipt
Step 4 Review Info
Step 5 Download Certificate

براہ کرم نیچے دیئے گئے بٹن پر کلک کر کے اپنا سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کریں

MINISTRY OF NATIONAL HEALTH SERVICES REGULATIONS AND COORDINATION
GOVERNMENT OF PAKISTAN

Certificate No. 100000288

Issuing Date: 25-03-2021

IMMUNIZATION CERTIFICATE FOR COVID-19

 Ali Ahmed Kurd

Birth Date: 08-04-1984 CNIC No. 31303-1566076-9

Nationality: Pakistan Passport No. PK123467

has been administrated following COVID-19 vaccine.

Vaccine or prophylaxis	Date	Name of Health Center	Vaccine manufacturer & batch No.
01.	04-02-2021	Mayo Hospital	Sinopharm, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd 202012248
02.	26-02-2021	Mayo Hospital	Sinopharm, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd 202012248

MINISTRY OF NATIONAL HEALTH SERVICES REGULATIONS & COORDINATION
Issuing Authority

For more details